



# کولہے یا ہڈی کی تبدیلی کے لیے اینیستھیٹک کا انتخاب

یہ کتابچہ اپنے کولہے یا گھٹتے کو تبدیل کرنے کے لئے آپریشن کے وقت مصنوعی بے ہوشی کے مختلف انتخاب کی وضاحت کرتا ہے اور آپ کو اس سے کیا توقع کرنی چاہیے۔ یہ ماہر اینیستھیزیا، مریضوں اور مریضوں کے نمائندوں نے مل کر کام کرتے ہوئے لکھا ہے۔

## مواد

یہ کتابچہ وضاحت کرتا ہے:

- کولہے اور گھٹتے کی تبدیلی کے لئے مختلف قسم کی مصنوعی بے ہوشی کی دواؤں کی آپریشن سے پہلے کیا ہوتا ہے
- اپنے ماہر اینیستھیزیا کے ساتھ ممکنہ خطرہ اور اختیارات پر بات چیت کیسے کریں
- سرجری کی تیاری کیسے کریں
- آپریشن کے دن کیا ہوتا ہے
- آپریشن کے بعد کیا ہوتا ہے۔

## کولہے یا ہڈی کی تبدیلی کے لیے اینیستھیٹک کا انتخاب

جب آپ کولہے یا گھٹتے کی تبدیلی کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو دو اہم مختلف قسم کی مصنوعی بے ہوشی بوسکتی ہے:

- ایک اسپائل اینیستھیٹک (ریڑھ کی ہڈی میں سُن کرنے والی دوا کا لگانا)
- ایک پورا جسم سُن کرنے کی دوا۔

آپ کے پاس اور بھی طریقہ کار ہیں جو آپ کے درد کو کم کر دیں گے اور پورے تجربے کو زیادہ آرام دہ بنائیں گے۔ یہ ہیں:

- ایک اعصابی بلاک
- جوانٹ اور رخم کے گرد لوکل اینیستھیٹک کا ادخال (ٹیکے)
- دوا سے سکون آوری

## اسپائنل اینیستھیٹک (ریڑھ کی بڈی میں سُن کرنے والی دوا کا لگانا)

اس میں آپ کی کمر کے نجلے حصے (آپ کی ریڑھ کی بڈیوں کے درمیان) میں مصنوعی بے بوشی کی ادویات کا انجکشن لگانا شامل ہے۔ اس سے آپریشن کے دوران جسم کا نچلا حصہ سُن بو جاتا ہے اور آپ اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دے سکیں گے۔ اسپائنل اینیستھیٹک (ریڑھ کی بڈی میں سُن کرنے والی دوا کا لگانا) کے دوران آپ بیدار رہ سکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لئے براہ کرم ریڑھ سے متعلق اینیستھیزیا پر ہمارا کتابچہ ملاحظہ کریں جو یہاں مختلف زبانوں میں دستیاب ہے: [www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages)

## پورا جسم سُن کرنے کی دوا

جنزل اینیستھیزیا ایسی دوا ہے جو گہری نیند جیسی حالت پیدا کر دینی ہے۔ یہ کچھ آپریشنز اور آپریشن کے طریقہ کار کے لیے لازمی ہے۔ آپ بے بوش ہوتے ہیں یا کچھ محسوس نہیں کرتے۔ جنزل اینیستھیٹک کی دوائیں عام طور پر ورید میں دی جاتی ہیں یا گیس کے طور پر سانس سے، یا دونوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔

## اعصابی بلاک

یہ ایک لوکل اینیستھیٹک کا ٹیکہ ہے جو آپ کی ٹانگ کی طرف جانے والی نسou کے قریب لگایا جاتا ہے۔ نسou کی شناخت میں مدد کے لئے آپ کا مابر اینستھیزیا الٹر اساؤنڈ مشین کا استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی ٹانگ کا ایک حصہ کچھ گھنٹوں کے لئے سُن اور درد کے بغیر ہونا چاہیے، جس سے آپریشن کے بعد شدید درد کش ادویات کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ اعصابی بلاک کی قسم پر منحصر ہے، آپ اپنی ٹانگ کو مکمل طور پر حرکت دینے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ جسم کا ایک حصہ سُن کرنے کی دوا کی معیاد ختم نہ ہو جائے۔

فقط ایک اکیلے عصبی بلاک سے آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ایک ریڑھ کی بڈی میں لگانے والی بے بوشی کی دوا یا ایک جنسل اینیستھیٹک بھی دی جا سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے اعصابی بلاکس پر ہمارا کتابچہ ملاحظہ کریں جو یہاں مختلف زبانوں میں دستیاب ہے: [www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages)

## زخموں کا ادخال

یہ لوکل اینیستھیٹک اور کبھی دوسری درد کش دوا کا انجیکشن ہے جو اس جوڑ کے ارد گرد لگایا جاتا ہے جس کا آپریشن ہونا ہے۔ آپریشن کے دوران سرجن یہ ٹیکہ لگاتا ہے۔ آپ کو آپریشن کے بعد پُر سکون رکھنے کے لئے اس کے ساتھ ایک پورا جسم سُن کرنے کی دوا یا ریڑھ کی بڈی میں سُن کرنے والا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار جوڑ میں ایک چھوٹی پلاسٹک کی نالی چھوڑ دی جاتی ہے جس کے ذریعے مزید ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔

یہ ٹانگ کے پٹھوں کی طاقت پر اثر انداز ہوئے بغیر درد سے آرام دیتی ہے۔ درد سے آرام متغیر ہے، لیکن اگر آپ کو اعصابی بلاک ہے تو آپ جلدی اٹھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

## دوا سے خوابیدگی

آپریشن کے دوران آپ کو آرام دہ اور دوا سے خوابیدگی لانے کے لئے اکثر اسپائنل اینیستھیٹک (ریڑھ کی بڈی میں سُن کرنے والی دوا کا لگانا) کے ساتھ ہے۔ بوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا سے خوابیدگی بلکہ یا گہری بوسکتی ہے اور آپ کو بے بوشی کے بعد سب کچھ، کچھ یا کچھ بھی یاد بوسکتا ہے۔

آپ بے بوشی کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں ہمارے کتابچے اسیڈیشن کی وضاحت جو مختلف زبانوں میں دستیاب ہے: [www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages)

## فیصلہ کریں کہ کون سا انتخاب آپ کے لئے بہتر ہے

ماہر اینسٹھیزیا آپ کے ساتھ مختلف اختیارات پر اور آپ کے خطرے، آپ کی صحت اور آپ کی سرجری کی قسم کی بنیاد پر آپ کے لئے کون سا بہترین ہے پر تبادلہ خیال کرے گا۔

### مشترک فیصلہ سازی

مرکز برائے جراحی سے پہلے کی نگہداشت نے مشترکہ فیصلہ سازی کی وضاحت کرنے کے لئے ایک اینیمیشن تیار کی ہے۔ آپ اسے پہاں دیکھ سکتے ہیں: [www.c poc.org.uk/shared-decision-making](http://www.c poc.org.uk/shared-decision-making)

مشترکہ فیصلہ سازی یقینی بناتی ہے کہ لوگوں کو ایسے فیصلے کرنے میں مدد ملے جو ان کے لیے درست ہوں۔ یہ ایک باہمی تعاون پر مبنی عمل ہے جس کے ذریعے ایک معالج مریض کو اس کے علاج کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گفتگو ایک ساتھ لاتی ہے:

- معالج کی مہارت، جیسے علاج کے اختیارات، ثبوت، ممکنہ خطرہ اور فوائد
- مریض کیا جانتا ہے: ان کی ترجیحات، ذاتی حالات، اہداف، اقدار اور عقائد۔

مزید جانیں: [www.england.nhs.uk/personalisedcare/shared-decision-making](http://www.england.nhs.uk/personalisedcare/shared-decision-making)

پہاں کچھ ٹولز بیں جو آپ اپنے ماہر اینسٹھیزیا یا قبل عمل کی تشخیص کے عمل کے ساتھ اپنی گفتگو کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں:

دانشمندی سے یو کے بران فریم ورک کا انتخاب کرنا

علاج کے بارے میں سوالات پوچھنے کے لیے اسے یاد دہانی کے طور پر استعمال کریں۔

[https://bit.ly/CWUK\\_leaflet](https://bit.ly/CWUK_leaflet)

این ایج ایس تین سوالات پوچھتا ہے

آپ کی صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں انتخاب کیے جا سکتے ہیں۔

[https://bit.ly/NHS\\_A3Qs](https://bit.ly/NHS_A3Qs)

### جراحی سے پہلے کی نگہداشت کا مرکز (CPOC)

CPOC نے مشترکہ فیصلہ سازی کی وضاحت کے لیے ایک اینیمیشن تیار کیا ہے۔

[www.c poc.org.uk/shared-decision-making](http://www.c poc.org.uk/shared-decision-making)

## سوالات جو آپ پوچھنا پسند کر سکتے ہیں

اگر آپ کے اپنی مصنوعی بے بوشی کی دوا کے بارے میں سوالات ہیں، تو انہیں لکھ دیں (آپ نیچے دی گئی مثالوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور نیچے کی جگہ میں اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں)۔ اگر آپ اپنے آپریشن کے دن سے پہلے کسی ماہر اینسٹھیزیا سے بات کرنا چاہتے ہوں، تو ماقبل آپریشن تشخیص ٹیم سے رابطہ کریں جو کہ آپ کے لئے کسی ماہر اینسٹھیزیا سے فون پر رابطہ یا کلینک میں ملاقات کا انتظام کرا سکتے ہیں۔

1. کس قسم کی بے بوشی کی دوا میرے لئے بہترین ہوگی اور کیوں؟
2. کیا مجھے کوئی خاص ممکنہ خطرات ہو سکتے ہیں؟
3. میں سرجری سے پہلے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟

## خطرہ اور مصنوعی بے حس کرنا

جید مصنوعی بے ہوشی کی دوائیں بہت محفوظ ہیں۔ مصنوعی بے ہوشی کی دوا یا استعمال شدہ آلات سے کچھ عام مضر اثر ہیں، جو عام طور پر سنگین یا دیرپا نہیں ہوتے۔ ممکنہ خطرہ افراد کے درمیان مختلف ہوں گے اور وہ طریقہ کار اور استعمال کئے گئے مصنوعی بے ہوشی کی تکنیک پر منحصر ہوں گے۔

آپ کا ماہر اینسٹہبیزیا آپ کے ساتھ ان ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرے گا جنہیں وہ آپ کے لئے بہت اہم سمجھتا ہے۔ وہ صرف کم عام ممکنہ خطرہ پر بات کریں گے اگر وہ آپ سے متعلق ہوں۔

اگر آپ بے ہوشی سے وابستہ خطرات کے بارے میں مزید تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو، یہاں مختلف زبانوں میں مزید معلومات دستیاب ہیں: [www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages)

## آپ کے آپریشن سے پہلے پیشگی تشخیص کا کلینک

زیادہ تر اسپتال آپ کو اپنی عمومی صحت اور سرگرمی کی سطحون کو دیکھنے کے لئے پیشگی تشخیص کا کلینک میں شرکت کے لئے مدعو کریں گے۔

براہ کرم ان ادویات کی فہرست لائیں جو آپ لے رہے ہیں، یا اپنی دوائیں ان کی مکمل پیکنگ میں لائیں۔

آپ سے آپکی عمومی صحت اور سرگرمی اور پچھلی بیماریوں، آپریشن اور مصنوعی بے ہوشی کی دوائیں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے کسی بھی قسم کی الرجی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔

عملہ آپریشن کے لئے آپ کی صحت کا جائزہ لے گا اور آپ کے لیے ضروری تمام ٹیسٹوں کے لیے کہے گا، جیسے خون کے ٹیسٹ یا الیکٹرولائیکرام (ECG) یہ چیک کرنے کے لئے کہ آپ کا دل کتنی اچھی طرح کام کرتا ہے۔ خون کے ٹیسٹ میں آپ کے آئرن کی سطح کی جانچ کرنا اور ضرورت پڑنے پر آئرن سپلیمنٹ تجویز کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے آپریشن کے دوران خون کی منتقلی کی ضرورت کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔

عملہ آپ سے آپ کے آپریشن کے لئے مصنوعی بے ہوشی کی اقسام کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ آپ اپنی صحت سے متعلق اور اپنے مصنوعی بے ہوشی کے لیے انتخاب کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کرنے کے لئے کسی مابر اینسٹہبیزیا سے بھی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ طبی حالت درپیش ہے تو وہ مصنوعی بے ہوشی کے ایک خاص انتخاب کی سفارش کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کو پیچیدہ طبی مسائل ہیں یا آپ کے جوڑوں کی وجہ سے نقل و حرکت محدود نہیں ہے تو، آپ کو مصنوعی بے ہوشی کی اور / یا سرجری سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں سوچنے کے لئے اضافی وقت مانگیں گے کہ آپریشن کروا لیا جائے کے یا اپنے کنبہ یا نگہبان سے اس پر تبادلہ خیال کریں۔

## آپریشن کی تیاری

فڑ مریض جو اپنی صحت اور طرز زندگی کو بہتر بنانے کے قابل ہوتے ہیں وہ سرجری سے زیادہ تیزی سے اور کم پیچیدگیاں کے ساتھ صحت یاب ہوتے ہیں۔

اپنے آپ کو آپریشن کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹی تبدیلیاں بھی بڑا فرق کر سکتی ہیں۔ آپ اپنی جسمانی سرگرمی کی سطح کو بڑھانا اور اپنی خوراک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ شراب پیتی ہیں یا تمباکو نوشی کرتی ہیں، تو آپ کو کم کرنے یا روکنے پر غور کرنا چاہیے۔

اگر آپ کو ایک طویل عرصے سے طبی مسئلہ ہے، تو اپنی سرجری والی جی پی سے معانثہ کروائیں کہ آیا سرجری سے پہلے آپ اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکتی ہیں۔

بمارے تیز تر صحتیابی وسائل آپ کو وہ معلومات فراہم کریں گے جو آپ کو اپنے آپریشن کے لئے توانا اور بہتر طور پر تیار ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ مزید معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں جو مختلف زبانوں میں دستیاب ہے یہاں:

[www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages)

## حالی پروگرام

اگر آپ نے کولہے یا گھٹٹے کی سرجری کا منصوبہ بنایا ہے تو آپ کا ہسپتال آپ کے آپریشن کے لئے صحتیاب ہونے، اپنی صحت یابی کو تیز کرنے اور جلدی اسپتال چھوڑنے میں مدد کے لئے متعدد پروگرام پیش کر سکتا ہے۔ ذیل میں ان حالی کے پروگراموں کی کچھ مثالیں ہیں۔ اگر آپ کا اسپتال ان پروگراموں کو چلاتا ہے تو آپ سرجن یا قبل عمل کی تشخیص والوں سے پوچھیں۔

## کولہے اور گھٹٹے (جوڑوں) کے اسکول

بہت سے ہسپتال معلوماتی سیشن دیتے ہیں جن میں آپ اپنی سرجری سے پہلے شرکت کرسکتے ہیں۔ ان اسکولوں کو 'جوائنٹ اسکول' کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا مقصد مرضیوں کو سرجیکل عمل کے مختلف مراحل کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، داخلے کی تیاری سے لے کر گھر پر صحت یابی تک۔ آپ آپریشن اور مصنوعی بے ہوشی کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔

## مؤثر حالی پروگرام

تیز افزوودہ حالی ایک ایسا لانحہ عمل ہے جس کا مقصد آپ کو ایک بڑے آپریشن کے بعد جتنی جلدی ہوسکے واپسی صحت مند بنانا ہے۔ ہسپتال کا عملہ آپ کے آپریشن سے پہلے، دوران اور بعد میں آپ کی اور ان کی اپنی تصدیق کرتا ہے تاکہ آپ کو بہترین موقع مل سکیں جلد اور مکمل صحتیابی کے لئے۔

پروگرام مختلف ہونگے جو اس پر انحصار کرتے ہیں کہ آپ کا کون سا آپریشن ہوگا اور کون سے ہسپتال میں آپ کا علاج ہوگا، پر اس میں اور وجوہات بھی شامل ہو سکتی ہیں:

- اگر آپریشن سے پہلے کافی وقت ہے تو آپ کی تدرستی کی سطح کو بہتر بنانا
- کسی اور طویل طبی حالت یا بیماری کا علاج کرنا
- آپریشن سے پہلے آپ کو پانی اور نشاستہ دار غذا دینا تاکہ آپ کو زیادہ دیر روزہ رکھنا نہ رہنا پڑے
- آپ کو دوا دینا تاکہ آپ کو آپریشن کے بعد کوئی بیماری نا ہو
- ان بہترین طریقوں پے غور کرنا جس سے آپریشن کے دوران درد سے آرام ہو
- جہاں تک ممکن ہو مقامی اینیستھیٹک بلاکس یا لوکل اینیستھیٹک کا استعمال کرنا
- بعد میں درد سے آرام کی بہترین دوا دینا تاکہ آپ جلد چل پھر سکیں
- سرجری کے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو پینے، کھانے اور متحرک کرنے کی ترغیب دینا (خوابیدگی)
- پیشاب کی نالی اور ڈرپ منسلک ہونے کے وقت کو کم کرنا
- آپ کو ورزش سکھانا تاکہ آپ آپریشن کے بعد جلد صحت یاب ہوں۔

## آپ کے آپریشن کے دن

ہسپتال کو آپ کو کھانے پینے سے روکنے کی واضح ہدایات دینی چاہئیں۔ یہ ہدایات اہم ہیں۔ بے ہوشی کے عمل کے دوران اگر آپ کے معدے میں خوراک یا مائع موجود ہے تو یہ آپ کے گلے یا پھیپھڑوں

میں آ سکتا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تاہم، آپ کو سرجری سے دو گھنٹے پہلے تک شفاف مانعات پینے کی اجازت ہو گی۔

اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو براہ کرم اپنے بسپتال سے پوچھیں کہ کب کھانا پینا ہے اور اپنے آپریشن کے دن ذیابیطس کی کون سی دوا لینی ہے۔

اگر آپ نے سرجری کی تیاری کے حصے کے طور پر تمبکو نوشی ترک نہیں کی ہے تو، آپ کو اپنے آپریشن کے دن سگریٹ نوشی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو الیکٹرانک سگریٹ نوشی بھی نہیں کرنی چاہیے۔

اگر آپ دوائیں لے رہے ہیں تو، آپ کو پیشگی تشخیص کرنے والی ٹیم سے مخصوص بدایات کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اس دن کون سی ادویات لینی چاہئیں۔ ضرورت کے مطابق گولیاں کھانے کے لئے آپ پانی کا گھونٹ لے سکتے ہیں۔

اگر آپ کوئی 'خون پتلا کرنے والی' ادویات جیسے وارفارین، کلوبیڈوگریل یا ریوروکسابن لیتے ہیں تو، آپ کو صحت کی دیکھ بھال کی ٹیم کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہوگی جب آپ کو انہیں لینا بند کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر آپ ان ادویات کو لینا بند کر دیں تو خطرات ہو سکتے ہیں اور آپ کو کچھ اور تجویز کیا جاسکتا ہے۔

بسپتال آتے وقت اگر آپ بہتر محسوس نہیں کر رہے تو براہ کرم مشورہ لینے کے لئے وارد میں فون کریں۔

## اپنے ماہر اینستھیزیا سے ملاقات

آپ پیشگی تشخیص کا کلینک میں کسی ماہر اینستھیزیا سے مل سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں آپ اپنی سرجری کے دن اپنے ماہر اینستھیزیا سے بسپتال میں ملیں گے۔ وہ اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ آپ کس قسم کی مصنوعی بے بوشی کی دوالے سکتے ہیں، بشمول فوائد، ممکنہ خطرہ اور آپ کی ترجیحات، اور آپ مل کر فیصلہ کریں گے کہ آپ کے لیے کون سی مصنوعی بے بوشی کی دوا بہترین ہے۔ آپ دوسرے ماہر صحت سے بھی مل سکتے ہیں۔ آپ ان کے کردار اور مصنوعی بے بوشی کرنے والی ٹیم کے بارے میں بماری ویب سائٹ پر مزید پڑھ سکتے ہیں۔ [www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team)

## قبل از آپریشن دوا لینا (دوا سے پہلے)

دوا سے پہلے (ایک قبل از آپریشن دوا لینا) بعض اوقات کچھ مصنوعی بے بوشی کی دوائیوں سے پہلے دی جاتی ہے۔ پری میڈز آپ کے جسم کو سرجری کے لئے تیار کرتے ہیں۔ وہ درد سے آرام شروع کرواتے ہیں، پیٹ میں تیزاب کو کم کرسکتے ہیں یا آپ کو آرام کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔

## جب آپ کو آپریشن کے لئے بلا جاتا ہے

- عملے کا ایک رکن آپ کے ساتھ آپریشن تھیٹر تک جائے گا۔
- عام طور پر آپ اپنی عینک، کٹیکٹ لینز، آنہ سماعت اور مصنوعی دانت اس کمرے تک لگا کر رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو بے بوشی کی دوا جانی ہے۔ اگر آپ کو جنرل اینستھیٹک کی دوا نہیں دی جا رہی تو آپ یہ سب پہن سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو ریڑھ کی بڈی جیسے مقامی یا علاقائی اینستھیٹک ہے تو، آپ موسیقی سننے کے لئے بیڈ فون کے ساتھ اپنا الیکٹرانک آنلے لے سکتے ہیں (اپلے سے اپنی نرس سے چیک کریں)۔
- آپ آپریشن تھیٹر میں چل سکتے ہیں، عملے کے کسی بھی رکن کے ساتھ، یا آپ ویبل چیئر یا بستر یا ٹرالی پر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود چل رہے ہیں تو، آپ عام طور پر خود ڈریسنگ گاؤن اور چپل پہن سکتے ہیں۔

آپریٹنگ ڈپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی معمول کی جانچ پڑتاں کی جائے گی، اس سے پہلے کہ بے بوشی کا اثر شروع ہو جائے۔ آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے، آپ کی تاریخ پیدائش، آپ جو علاج کر رہے ہیں، آپ کے جسم کا وہ حصہ جس پر آپ علاج کر رہے ہیں۔

بیں، آپ نے آخری بار کب کھایا یا پیا، اور کسی بھی الرجی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ چیک تمام ہسپتالوں میں معیاری ہیں اور حفاظتی طریقہ کار کا ایک اہم حصہ ہے۔

## بے ہوشی کی دوا شروع کرنا

آپ کی بے ہوشی کی دوا، بے ہوشی کے کمرے میں یا آپریٹنگ تھیٹر میں شروع بوسکتی ہے۔ آپ کا اینسٹھیٹسٹ ایک تربیت یافتہ معاون کے ساتھ کام کرے گا۔ اینسٹھیٹسٹ یا اسسٹھیٹسٹ آپ کو ان مشینوں سے بھی جوڑیں گے جو آپ کے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور آکسیجن کی سطح کی پیمائش کرتی ہیں۔

آپ کے باتھ یا بازو کی پشت پر خون کی نالی میں ایک کینولا، ایک پتلی پلاسٹک کی ٹیوب ڈالی جائے گی۔ اس کا استعمال علاج کے دوران اور بعد میں بے ہوشی کی دوا اور کوئی دوائیں دینے کے لیے کیا جائے گا۔ اگر آپ کینولا ڈالنے کے بارے میں بے چینی محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس حصے کو بے حس کرنے کے لیے لوکل اینسٹھیٹک کریم لگا سکتے ہیں۔

## آپریشن کے دوران

آپ کا بے ہوشی کا ڈاکٹر پورے علاج کے دوران آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی حالت کی بہت قریب سے نگرانی کرے گا، ضرورت کے مطابق بے ہوشی کی دوا کو ایڈجسٹ کرے گا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں یا مسکن دوالے رہے ہیں، تو اینسٹھیٹسٹ آپ کو یقین دلانے اور آرام کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ سے بات کر سکتے گا۔

## خون کی منتقلی اور متبدال

کچھ علاج کے دوران یا بعد میں، آپ خون کی ایک خاصی مقدار کھو سکتے ہیں۔

اگر ضروری ہو تو، آپ کے ضائع بونے والے خون کو تبدیل کرنے کے لیے خون کی منتقلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔

برائے مہربانی اپنے سرجن یا بے ہوشی کی دوالگانے والے سے پوچھیں کہ کیا آپ خون کی منتقلی اور دستیاب متبدال کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مزید معلومات این ایج ایس ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں:

[uk/conditions/blood-transfusion-nhs-www](http://www.uk/conditions/blood-transfusion-nhs-www)

## علاج کے بعد

■ علاج کے بعد، آپ کو عام طور پر بحالی کا کمرہ میں لے جایا جائے گا، آپریشن تھیٹر کے قریب ایک خاص وارڈ جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت سے صحت یا بونے تک آپ کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔

■ بحالی کے کمرے میں آپ کو صحت سے متعلق ایک نگہداشت سے انفرادی توجہ حاصل ہو گی۔ اسی کمرے میں دوسرے مریض بھی موجود ہو گے۔

■ آپ کی دل کی دھڑکن کی شرح، بلڈ پریشر اور آکسیجن کی سطح پر احتیاط سے نگرانی کی جائے گی۔ آپ کو عام طور پر بلکے پلاسٹک کے چہرے کے ماسک کے ذریعے آکسیجن فریم کی جائے گی۔

■ آپ کو کینولا کے ذریعے سیال دینے کے لیے ڈرپ لگائی جا سکتی ہے۔

■ اگر آپ کو درد یا بیماری ہے تو، اس کا فوری علاج کیا جائے گا۔

■ آپ کو کچھ پینے کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔

■ جب بحالی کے کمرے کا عملہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی بے ہوشی سے محفوظ ہو گئے ہیں تو آپ کو دوبارہ وارڈ میں لے جایا جائے گا۔

## درد سے نجات

کولہے یا گھٹوں کو تبدیل کرنے کے لئے بے ہوش کرنے والی دوا کا مقصد عام طور پر آپ کو علاج کے بعد درد کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے ، لیکن درد بونا بحالی کے عمل کا ایک عام حصہ ہے۔ آپ کے علاج کے بعد درد سے آرام کا مقصد آپ کے لیے درد کو قابل برداشت بنانا اور نئے جوڑ کے استعمال کو شروع کرنا ہے۔ مکمل طور پر درد کا خاتمه ممکن نہیں ہے اور درد کی ایک مخصوص سطح کی توقع کی جانی چاہیے۔

درد دور کرنے کے کچھ طریقے یہ ہیں:

## گولیاں یا نگلنے کے لیے مائعت

یہ کولہے اور گھٹے کی تبدیلی کے بعد درد سے آرام کا سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے۔ آپ کے علاج کے بعد آپ کو درد کش ادویات تجویز کی جا سکتی ہیں جن میں اوپینڈز شامل ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد ان ادویات کا استعمال کم کر کے انہیں بند کر دیں کیونکہ ان کے مستقل استعمال سے آپ کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

آپ اوپینڈز کے بارے میں مزید معلومات فیکٹری آف پین میڈیسین کی ویب سائٹ پر حاصل کر سکتے ہیں:

[www.fpm.ac.uk/opioids-aware/information-patients](http://www.fpm.ac.uk/opioids-aware/information-patients)

## ٹیکے

رگ میں ٹیکہ لگانے کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ ٹانگ یا کولہوں کے پٹھوں میں انجیکشن زیادہ آہستہ کام کرتے ہیں۔ سخت درد سے نجات دلانے والی دوائیں جیسے مارفین، پیتھیڈین یا کوڈین دی جا سکتی ہیں۔

## گھر جا رہے ہیں اور کب مدد طلب کریں گے۔

آپ کتنی جلدی گھر جا سکیں گے اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ علاج کے بعد آپ کتنی تیزی سے صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کی صحت کی حالت اور آپ کو کس قسم کی علاج اور بے ہوشی کی دوا لگی ہے۔ کچھ مریض کچھ ہسپتالوں میں اسی دن بھی گھر جا سکتے ہیں، جبکہ دوسروں کو کچھ دنوں تک ہسپتال میں رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عام طور پر آپ کھانا، پینا اور متحرک ہونے کے بعد گھر جا سکیں گے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم یہ بھی یقینی بنانا چاہے گی کہ کوئی بھی درد قابو میں ہے اور یہ کہ آپ کو گھر بھیجنے سے پہلے پیشاب کر سکتے ہیں۔

آپ علاج کے بعد گاڑی نہیں چلا سکیں گی، اس لیے آپ کو ٹیکسی یا آپ کو لینے کے لیے کسی کا بندوبست کرنا چاہیے۔

ڈسچارج ہونے سے پہلے آپ کو کسی بھی ورزش کے بارے میں معلومات دی جائیں گی جو آپ کو صحت یابی میں مدد کرنے کے لئے کرنی چاہیے اور اپنے زخم کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی جائیں گی۔

اگر آپ کا علاج اس ہسپتال سے ہوئی ہو تو آپ جی پی یا اس ہسپتال سے رابطہ کر سکتے ہیں

■ آپ کو شدید درد ہے یا آپ کا درد بڑھ رہا ہے

■ جہاں آپ کی علاج ہوئی تھی آپ کو درد اور سوجن پیدا ہوتی ہے

■ آپ کو سینے میں درد یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو گا

■ آپ کو کوئی تشویش ہے جو ہسپتال کی طرف سے دی گئی گھر جانے کی معلومات میں شامل نہیں ہے۔

اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہوتی ہے تو آپ کو جلد از جلد اپنے قریبی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے۔

## دست برداری

بم اس کتابچہ میں معلومات کو صحیح اور تازہ ترین رکھنے کے لئے سخت کوشش کرتے ہیں، لیکن بم اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ہمیں موقع نہیں ہے کہ یہ عام معلومات ان سارے سوالوں کا احاطہ کر سکیں جو آپ کے پاس ہو سکتے ہیں یا ہر اس چیز کا جواب دے سکیں جو آپ کے لئے اہم ہے۔ اس کتابچہ کو بطور گائیڈ استعمال کر کے، آپ اپنے اختیارات یا پرشانیوں کے بارے میں اپنی طبی ٹیم سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ اس کتابچہ کو بذات خود نصیحت نہ سمجھا جائے۔ اسے کسی بھی تجارتی یا کاروباری مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مکمل دست برداری کے لئے، براہ مہربانی یہاں کلک کریں۔

([www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/urdu](http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/urdu))

کی مترجم برادری کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہیں۔ ان ترجموں کا معیار Translators Without Borders تمام ترجمے ہر ممکن حد تک صحیح رکھنے کے لئے جانچا جاتا ہے، لیکن پھر بھی چند معلومات کی غلطیوں اور غلط تشریح کا خطرہ رہتا ہے۔

## ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں

اگر آپ کے پاس کوئی ہدایات یا رائے ہے، تو براہ کرم انہیں ای میل کریں: [uk.ac.patientinformation@rcoa](mailto:uk.ac.patientinformation@rcoa)

رائل کالج آف اینسٹیہیٹس

رائل کالج آف اینسٹیہیٹ چرچل باؤس 35 ریڈ لائین اسکوائر لندن WC1R 4SG

1500 7092 020

**uk.ac.rcoa**

## چھٹا ایڈیشن ، جون 2023

اس کتابچہ کی اشاعت کی تاریخ کے تین سال کے اندر جائزہ لیا جائے گا۔

© 2023 رائل کالج آف اینسٹیہیٹس

اس کتابچہ کو مرضی کے لئے معلوماتی مواد تیار کرنے کے مقصد سے نقل کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی کر کے اصل ذریعے کا حوالہ دیں۔ اگر آپ اس کتابچہ کا کچھ حصہ کسی اور اشاعت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو مناسب اقرار کرنا ضروری ہے اور لوگو، برینٹنگ اور تصاویر کو بتا دینا چاہیے۔ مزید معلومات کے لئے، ہم سے رابطہ کریں۔